




(imageless edition)

✎ Ingrid Schechter
🔒 Ingrid Schechter
📖 Samrina Sana
😊 Urdu / French
📖 Level 2



Tingi et les vaches

تینگی اور بھینس



Storybooks Mauritius

global-asp.github.io/storybooks-mauritius

تینگی اور بھینس / Tingi et les vaches

Written by: Ingrid Schechter

Illustrated by: Ingrid Schechter

Translated by: Samrina Sana (ur), Olivia Mahe,

Translators without Borders (fr)


This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Mauritius in an effort to provide children's stories in Mauritius's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons

[Attribution 3.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>



ٹینگلی اپنے دادی کے ساتھ رہتا ہے۔


...


Tingi vivait avec sa grand-mère.

Il gardait les vaches avec elle.

...

— في بيتها كانت تربي البقر والماشية،






ایک دن فوجی آئے۔

...


Un jour, des soldats arrivèrent.



ٹینگلی اور اُس کی دادی دور بھاگے اور چھپ گئے۔

...

Tingi et sa grand-mère se sauvèrent et se cachèrent.



جب یہ محفوظ بھاگو، ٹینگلی اور اس کی دادی باہر آئے۔

...


Quand il n'y eut plus de danger, Tingi et sa grand-mère se relevèrent.

Un des soldats marcha sur Tingi, mais celui-ci ne réagit pas.

...

- هر ششده، هه گزتم


- هه گزتم، هه ششده، هه گزتم



Ils restèrent cachés dans des buissons jusqu'au soir.

...

- هر ششده، هه گزتم






پھر فوجی واپس آگئے۔

...

Puis les soldats revinrent.



دادی نے ٹینگلی کو پتوں کے نیچے چھپا دیا۔

...

La grand-mère de Tingi recouvrit alors leurs corps de feuilles.